


جاندي ڪي ٻار ۾ مٿي ٻڌ ڪري ٿا

Parler de la famille



✎ Espen Stranger-Johannessen
✎ Billie Cejka Rísnes
📄 Yasir Tayyab
3
🗨️ | ur / français | fr




LIDA Stories
lidastories.net

جاندي ڪي ٻار ۾ مٿي ٻڌ ڪري ٿا / Parler de
la famille

✎ Espen Stranger-Johannessen
✎ Billie Cejka Rísnes
📄 Yasir Tayyab (ur), Zina (fr)



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International license.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



“کیآپ کا کوئی خندان ہے؟”

...


“As-tu de la famille ?”

“C'est une bonne idée. J'espère aussi que mes enfants iront à l'université un jour.”

...

”کسی دی یونیورسٹی چائی گے۔“


”میرے امی بے مخلصہ۔ سوچو اچھا بہت بہت۔“




“Oui, mon mari et moi avons deux filles et un fils.”

...

”جی ہاں، میرے شوہر اور میری دو بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔“






“میری بھی دو بیٹیاں ہیں، لیکن میں طلاق یافتہ ہوں۔”

...

“J’ai aussi deux filles, mais je suis divorcé.”



“وہ نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے کہتی ہوں کہ
اسے یونیورسٹی جانا چاہیے۔”

...


“Il veut travailler, mais je lui dis qu’il devrait
plutôt aller à l’université.”

”C'est super ! Ils grandissent si vite. Qu'est-ce qu'il veut faire après ?”

...

”ذہنی بچہ کرے گا کہ اسے وہ سب


کے بارے میں جلدی کرے یا جیسا کہ وہ سب نے




”Quel âge ont tes filles ?”

...

”ذہنی بچہ کرے گا کہ اسے وہ سب






“مید چر بدل کی ہے۔ وہ نرسری اسکول جتی ہے۔ مریم دس
بدل کی ہے، اس لیے وہ اسکول جتی ہے۔”

...

“Mina a quatre ans. Elle est en maternelle.
Miriam a dix ans, donc elle va à l'école
primaire.”



“میرے تھم بچے سکول میں ہیں۔ میرا بیڈا گلے بدل
گریجویٹ ہو جائے گا۔”

...

“Tous mes enfants sont à l'école. Mon fils
va avoir son diplôme l'année prochaine.”